

برائے فوری اجراء

برامپٹن 2019 وزیٹر گائیڈ کی مدد سے برامپٹن کو دریافت کریں

برامپٹن، آن (30 اپریل 2019) - سحر انگیز قدرتی مقامات اور پکٹنڈیوں سے لے کر دلکش ثقافتی تقریبات اور خورد و نوش کے تجربات تک، برامپٹن میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔

ان سب کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، 2019 برامپٹن وزیٹر گائیڈ اب آن لائن اور طبع شدہ صورتوں میں دستیاب ہے۔ رہائشی اور سیاح خواتین و حضرات طبع شدہ نقل برامپٹن سٹی ہال سے حاصل کر سکتے ہیں یا www.brampton.ca/tourism سے الیکٹرانک ورژن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

اس سالانہ گائیڈ میں برامپٹن کے لوگوں، دلچسپی کے مقامات، تقریبات اور ورثہ کو نمایاں حیثیت دی گئی ہے اور استفادہ حاصل کرنے والے لوگوں کو ہمارے متنوع شہر کے نئے تجربات کو دریافت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سرخیاں

- اس سال کے گائیڈ میں شامل شدہ 50 فیصد تصاویر رہائشیوں اور سیاح خواتین و حضرات کی جانب سے سوشل میڈیا میں دی گئی تصاویر سے لی گئی ہیں۔
- اس سال کے گائیڈ میں برامپٹن کے کئی قابل ذکر رہائشیوں کو بھی خصوصی حیثیت دی گئی ہے، بشمول:
 - تسلیم شدہ شاعر اور برامپٹن آرٹس واک آف فیم میں نامزد شدہ [روبی کوپر](#)۔
 - صاحب اثر، تحریکی مقرر، انٹرپرائیوٹر اور برامپٹن کے اپنے [ٹی ہائی ٹینینیل](#) کے بانی، ٹینینیل لیوس۔
 - نغمہ نگار اور موسیقار [راز](#)۔
- برامپٹن کا ایک ورلڈ فوڈ ٹور اور "اونلی ان برامپٹن" کے کچھ ذائقے۔
- شہر کو چھوڑے بغیر بیرونی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکس، پکٹنڈیاں اور سہولت گاہیں۔
- تھیٹرز، گیلریز اور تاریخی مقامات کی جانب سے ثقافت اور ورثہ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع۔
- پورے سال کی سرگرمیاں اور شہر بھر میں موجود دلچسپی کے مقامات کی کھوج۔

2019 برامپٹن وزیٹر گائیڈ کو ٹورزم ٹورانٹو، اونٹاریو ریجنل ٹورزم آرگنائزیشن #5 اور سٹی آف برامپٹن کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ پورے اونٹاریو میں ٹورزم انفارمیشن سنٹرز، جیمبر آف کامرس، ہوٹلوں، انڈسٹری ٹور آپریٹرز اور دیگر مقامات پر اس رہنما کی نقول فراہم کی جاتی ہیں۔

اقتباس

"برامپٹن اپنے رہائشیوں اور سیاحوں کو دنیا کے صف اول کے منفرد تجربات فراہم کرنے کے کوشاں ہے۔ کھانوں کے حیرت انگیز ذائقوں اور پرجوش و ابھرتے ہوئے ثقافتی مناظر بشمول تہوار، موسیقی اور ڈرامہ سے لے کر پکٹنڈیوں اور پارکس کے ایک وسیع نیٹ ورک تک، برامپٹن کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیے وزیٹر گائیڈ کی ایک عدد نقل حاصل کریں یا آن لائن ملاحظہ کریں۔ ہمارے شہر کے بارے میں جاننے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca